



## سوال

(740) دعا مختصر ہونی چاہیے یا طویل؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دعا مختصر ہونی چاہیے یا طویل؟

ہمارے محلے کی مسجد کے خطیب صاحب نماز جمعہ کے بعد اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کہ لوگ ہاتھ اٹھانے ہوئے تھک جاتے ہیں وہ اتنی دیر جمعہ کی دو رکعتیں پڑھانے میں نہیں لگاتے جتنی دیر دعا مانگنے میں لگا دیتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں کہ کیا ان کا یہ عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جمعہ یا اس کے علاوہ عام فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام امامت کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ سلام پھیرنے پر مقتدی امام کی اقتداء سے آزاد ہو جاتا ہے اور امام صاحب اگر کسی وجہ سے دعا مانگنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ دعا کرنے کے پابند نہیں۔ بیٹھے ورد کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں۔ یا مسجد سے اٹھ کر باہر جانا چاہیں تو اس سے بھی کوئی امر مانع نہیں۔ باقی رہا داعی کا دعا لمبی یا مختصر کرنا سو یہ داعی کے نشاط پر منحصر ہے، اس میں شرعی کوئی پابندی نہیں۔

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 637

محدث فتویٰ